



آپ کے کاروبار میں آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات



FDNY

بیورو آف فائر پریونشن

(Bureau of Fire Prevention)

www.nyc.gov/fdny

سکتا ہے۔ مزید برآں، آگ لگنے کی صورت میں آپ کی انشورنس کمپنی کو آپ کی طرف سے جمع کروائے گئے کوئی سے کلیمز پر اعتراض ہو گا۔

مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ سروس کمپنی نے تصویب اور سروسنگ کا کام اچھے طریقے سے انجام دیا ہے؟

اول، یقینی بنائیں کہ آگ بجھانے والے آلات فراہم کرنے والی کمپنی مجاز ہے اور ابھی بھی FDNY کی منظور شدہ فہرست میں موجود ہے۔ دوم، یقینی بنائیں کہ تمام ٹیگ منسلک ہیں اور تکمیل شدہ ہیں۔

مجھے کس قسم کے آگ بجھانے والے آلے کی ضرورت ہے؟

سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والا آگ بجھانے کا آلہ ABC آگ بجھانے والا آلہ ہے۔ تاہم، منظور شدہ سروس کمپنی آپ کو ٹھیک طرح بتائے گی کہ آپ کو اپنے کاروبار پر کس قسم کا آگ بجھانے والا آلہ درکار ہے۔

میں آگ بجھانے والا آلہ کیسے استعمال کروں؟

درست استعمال کے بارے میں معلومات آگ بجھانے والے آلے کے لیبل پر مل سکتی ہیں۔ P.A.S.S. مخفف استعمال کریں۔ پینڈل کی پن کو پیل کریں (کھینچیں)، نوزل کا ایم (رُخ) آگ کی نچلی سطح کی جانب رکھیں، لیور کو آہستگی کے ساتھ اسکویز کریں (دبائیں) اور ایک جانب سے دوسری جانب سیوٹیپ کریں (بلائیں)۔



میں غیر قانونی کمپنی یا سروسنگ کمپنی کی طرف سے نامناسب صفائی

یا ممکنہ فراڈ/جعل سازی کی رپورٹ کیسے کروں؟

آپ کو کسی بھی مسئلے کی شکایت فوری طور پر FDNY کو اس نمبر پر کال

کر کے دینی چاہیے 718-999-2533 آپ انہیں لکھ کر بھی دے سکتے ہیں:

pubcert@fdny.nyc.gov

دیکھ بھال

آگ بجھانے والے پورٹیبل آلے کی ہانڈرواسٹیٹک امتحان کے وقت سالانہ سروس بہت ضروری ہے یا ماہانہ معائنہ کے دوران ظاہری ٹوٹ پھوٹ نظر آنے کی صورت میں۔

سروس/مینٹیننس آگ بجھانے والے پورٹیبل آلے کی ایک تفصیلی جانچ ہوتی ہے۔

اس کی انجام دہی کا مقصد اس بات کی گارنٹی دینا ہے کہ آگ بجھانے والا آلہ درست اور محفوظ انداز میں کام کرے گا۔ دیکھ بھال آگ بجھانے والے آلے کی مرمت، ری چارجنگ یا تبدیل کروانے کا دوسرا نام ہے۔

اگر آپ کا آگ بجھانے والا آلہ سروس کے لیے لے جایا جا رہا ہو تو کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے اس کے متبادل کی فوری فراہمی پر اصرار کریں

نئے PFE ٹیگ پر لازمی یہ کچھ ہونا چاہیے:

- سروس کرنے والے ادارے کی معلومات (نام، پتہ، فون نمبر، ادارے کی ID) اور سروس کی تاریخ؛
- مہینہ، سال اور خریدے گئے آگ بجھانے والے آلے کی قسم؛
- فٹنس سرٹیفکیٹ کے حاملین کی معلومات (مکمل نام اور فٹنس سرٹیفکیٹ کا نمبر)؛
- جو کچھ کیا گیا تھا اس کی واضح نشاندہی۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

میں آگ بجھانے والے پورٹیبل آلے کے لیے سروس کمپنی کا انتخاب کیسے کروں؟ صرف ایک منظور شدہ کمپنی سے ہی خریداری کریں جس کا نام FDNY کی ویب سائٹ پر فہرست میں موجود ہو۔ منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست کی ہر 30 دن کے بعد تجدید کی جاتی ہے۔



ویب سائٹ کا لنک اور QR code (QR کوڈ) یہ ہے۔

<http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/portable-fire-extinguishers-company-certificates.page>

اگر کسی سروسنگ کمپنی کی منظوری یا انشورنس کی معیاد ختم ہو

چکی ہو تو کیا وہ سروس کا کام انجام دے سکتی ہے؟

نہیں! آپ کو منظور شدہ سروسنگ کمپنیوں کی فہرست کے لیے Fire

Department کی ویب سائٹ لازماً ملاحظہ کرنی چاہیے۔

اگر سروسنگ FDNY کی منظور شدہ کسی کمپنی کی جانب سے انجام

نہیں دی جاتی تو میرے لیے کیا خطرات ہیں؟

سب سے پہلے، آپ اپنے کاروبار، مال و متاع، اپنے گاہکوں، فوری مدد کے کارکنان اور عوام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کے کاروبار پر غیر محفوظ صورتحال پائی گئی تو آپ کو خلاف ورزی/خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دیا جا



تجاویز

- ایک حقیقی ہالوگرام پٹی 3 انچ لمبی اور 1/4 انچ چوڑی ہوتی ہے۔
- جعلی ٹیگز میں اچھے معیار کا سرمئی ہالوگرام موجود نہیں ہو گا۔
- جعلی ٹیگ پر موجود ہالوگرام روشنی کے مخالف حرکت کرنے پر رنگ تبدیل نہیں کرے گا۔

نئے پورٹیبل آگ بجھانے والے آلے کے ٹیگز نومبر 2018 کے آغاز سے احاطے میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ نئے ٹیگز پر مکمل عملدرآمد نومبر 2019 تک لازمی قرار دیا جائے گا۔

سروس کے بعد کیا چیز رکھنے کی ضرورت ہے؟

بحیثیت صارف، آپ کو ہمیشہ سروس یا خریداری کی رسید لینا چاہیے۔

رسید میں یہ سب کچھ واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے:

- کام کرنے والے ٹیکنیشن/ٹیکنیشنز کا نام؛
- کمپنی کا فون نمبر؛
- آیا سازوسامان نیا ہے یا پہلے استعمال ہو چکا ہے؛
- آگ بجھانے والے آلے کا ماڈل نمبر۔

- آلے کی بالائی سطح فرش سے 5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔

ماہانہ معائنہ کیا ہوتا ہے اور اسے کون انجام دے سکتا ہے؟

بصری معائنہ ایک ماہانہ "فوری چیک" ہوتا ہے جو کوئی بھی تفہیم یافتہ فرد کر سکتا ہے (فٹنس سرٹیفیکیٹ درکار نہیں)۔

آگ بجھانے والے تمام آلات کو مکمل طور پر چارج، ٹیگ شدہ اور استعمال کے لیے تیار ہونا چاہیے۔

ماہانہ معائنہ کے طریقہ کار

آگ بجھانے والے آلات کے معائنے میں مندرجہ ذیل چیزوں کی جانچ شامل ہونی چاہیے:

- دیوار پر صحیح طریقے سے لگائے گئے ہوں اور درست مقام پر ہوں؛
- فوری طور پر قابل رسائی ہوں؛
- استعمال کی ہدایات نام کی پلیٹ پر درج ہوں جس کا رخ باہر کی طرف ہو؛
- نظر آنے والی ٹوٹ پھوٹ کے لیے جانچ کریں؛
- ٹیگ منسلک ہے؛
- دباؤ کی گیج کی ریڈنگ اچھی



PFE کوری چارج کی ضرورت ہے

PFE کوری چارج کی ضرورت نہیں ہے

رینج میں ہو (اسے سبز پٹی میں ہونا چاہیے)؛

- ہر ماہانہ معائنے کے بعد تاریخ اور مختصر دستخط ہوں۔

نئے PFE ٹیگ حفاظتی اقدامات کے ساتھ وصول ہوتے ہیں، جن میں شامل ہے:

- QR کوڈ: عام لوگوں اور FDNY انسپیکٹرز کو FDNY کی منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست تک رسائی کی فراہمی۔
- ہالوگرام: عملی طور پر نقل کرنا ناممکن ہے۔
- 3 آف 9 بارکوڈ: وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا بارکوڈ اسٹینڈرڈ جس میں کیپیٹل حروف، اعداد، اور بہت ساری علامات شامل ہیں



تعارف

آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات (portable fire extinguishers) ہر کاروبار کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ عمارات میں اکثر آگ لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کوئی بھی آگ ایسا سانحہ بن سکتی ہے جو ملکیت و جائیداد حتیٰ کہ جانی نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ Fire Department کے ایسے قواعد ہیں جو آپ کو محفوظ طریقے سے کام کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تمام قواعد کی پیروی کریں۔

یہ پمفلٹ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم حفاظتی معلومات کا احاطہ کرتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ کے کاروبار پر موجود آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات کام کریں۔

کاروبار کے مالک کے طور پر، اس بات کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات کا مناسب طریقے سے معائنہ کیا جائے اور ان کی سروس کی جائے۔

آپ کے کاروبار پر آگ بجھانے والے کتنے پورٹیبل آلات موجود ہونے چاہئیں؟ آپ کے بزنس کے لیے درکار آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات کی تعداد اور ان کے لگائے کے بہترین مقامات کے تعین کے لیے آگ بجھانے والے آلات فروخت کرنے والی کمپنی سے مشاورت کریں۔

آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات کی خریداری اور تنصیب

آگ بجھانے والے آلات صرف FDNY سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ کمپنی سے ہی خریدیں۔ کاروبار کے مالک کے طور پر، آپ کو بہترین قیمت کے حصول کے لیے بہت سی کمپنیوں کو کال کرنا چاہیے۔



FDNY کی ویب سائٹ پر 2 فہرستیں دی گئی ہیں، ایک فروخت کے لیے اور دوسری آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات کی پوری خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کی ہے۔ پوری خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں آگ بجھانے والے آلات کی فروخت اور سروس، دونوں کر سکتی ہیں۔ فروخت والی کمپنیاں صرف فروخت کا کام کر سکتی ہیں۔

تنصیب کے بعد، آگ بجھانے والے آلے (تصویر دیکھیں) کو لازماً:

- فرش پر نہیں رکھنا چاہیے؛
- آلے کی نچلی سطح فرش سے کم از کم 4 انچ اوپر ہونی چاہیے؛